

	سُورَةُ الضُّحَى	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. By the bright day!	قسم ہے روزِ روشن کی!	وَ الضُّحَى
2. And by the night	قسم ہے رات کی	وَاللَّیْلِ
when	جب	اِذَا
it covered up,	وہ چھپ جائے!	سَجَى
3. Has not	نہ ہی	مَا
forsaken you	چھوڑا آپ کو	وَدَّعَاكَ
your Lord	آپ کے رب نے	رَبُّكَ
And nor (is)	اور نہ ہی	وَمَا
He displeased .	وہ ناراض ہوا۔	قَلَى
4. And	اور	وَ
verily every following hour	بیشک ہر آنے والی گھڑی	لَلْآخِرَةِ

is a better	بہتر ہے	خَيْرٌ
for you	آپ کے لئے	لَكَ
than the preceding one.	پہلی سے۔	مِنَ الْأُولَى
5. And soon	اور بہت جلد	وَلَسَوْفَ
shall bestow upon you	عطا فرمائے گا آپ کو	يُعْطِيكَ
your Lord	آپ کا رب	رَبُّكَ
that you will be well-pleased.	کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔	فَتَرْضَى
6. Did not	کیا نہیں	أَلَمْ
He find	پایا اُس نے	يَجِدُ
you	آپ کو	كَ
an orphan,	یتیم	يَتِيمًا
then provided abode?	تو پناہ عطا کی؟	فَأَوَى
7. Did He not find	اور پایا	وَوَجَدَ

you	آپ کو	كَ
lost in (His) love?	محبت میں گم	ضَالًّا
then guided.	تو ہدایت دی؟	فَهْدَى ﴿٤﴾
8. And	اور	وَ
He found	اُس نے پایا	وَجَدَ
you	آپ کو	كَ
seeking	حاجت مند	عَائِلًا
and made rich.	تو غنی کر دیا؟	فَاعْرَى ﴿٥﴾
9. So however	پس	فَأَمَّا
with any orphan	کسی یتیم پر	الْيَتِيمِ
never be strict	سختی نہ کیجئے!	فَلَا تَقْهَرْ ﴿٦﴾
10. And	اور	وَ
however	بہر حال	أَمَّا

the beggar,	کسی مانگنے والے کو	السَّائِلَ
Don't reproach.	نہ جھڑکیں!	فَلَا تَنْهَرُوهُ
11. And	اور	وَ
however	بہر حال	اَمَّا
the bounties	نعمت	بِنِعْمَةِ
of your Lord	اپنے رب کی	رَبِّكَ
proclaim(well).	تو خوب چرچا کریں۔	فَحَدِّثْهُ
	سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. Have not	کیا نہیں	اَلَمْ
We broadened	ہم نے کشادہ کر دیا	نَشْرَحُ
for you	آپ کے لئے	لَكَ

your breast?	سینہ آپ کا؟	صَدْرَكَ ﴿١٠﴾
2. And We have taken off	اور ہم نے اُتار دیا	وَ وَضَعْنَا
from you	آپ سے	عَنْكَ
your load ,	بوجھ آپ کا؟	وِزْرَكَ ﴿١١﴾
3. That	جس نے	الَّذِي
nearly broke	توڑ دی تھی	اَنْقَضَ
your back.	کمر آپ کی۔	ظَهْرَكَ ﴿١٢﴾
4. And	اور	وَ
We exalted	ہم نے بلند کر دیا	رَفَعْنَا
for you	آپ کے لئے	لَكَ
your fame	ذکر آپ کا۔	ذِكْرَكَ ﴿١٣﴾
5. So surely	پس بے شک	فَإِنَّ
with	ساتھ	مَعَ

the hardship	تنگی کے	الْعُسْرِ
(is) ease.	آسانی ہے۔	يُسْرًا ﴿٦﴾
6. Verily,	بے شک	إِنَّ
with	ساتھ	مَعَ
the hardship	تنگی کے	الْعُسْرِ
(is) ease.	آسانی ہے۔	يُسْرًا ﴿٦﴾
7. So when	پس جب	فَإِذَا
you are free	آپ فارغ ہو جائیں	فَرَّغْتُمْ
then strive hard.	تو محنت کریں	فَأَنْصَبُوا ﴿٧﴾
8. And	اور	وَ
to	طرف	إِلَىٰ
your Lord	اپنے رب کی	رَبِّكَ
turn earnestly.	راغب ہو جائیں	فَارْغَبُوا ﴿٨﴾

	سُورَةُ التِّينِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. By the fig	قسم ہے انجیر کی!	وَالتِّينِ
and by	اور قسم ہے	وَ
the olive!	زیتون کی!	الزَّيْتُونِ
2. And by Mount Tur of	قسم ہے طورِ	وَطُورِ
Sinai!	سیناء کی!	سَيْنِیْنَ
3. And by this	اور اس	وَهٰذَا
city (of)	شہرِ	الْبَلَدِ
peace !	پر امن کی!	الْاٰمِیْنِ
4. Indeed	بے شک بے شک	لَقَدْ
We have created	پیدا کیا ہم نے	خَلَقْنَا
man	انسان کو	الْاِنْسَانَ

in	میں	فِي
the best	بہترین	أَحْسَنِ
constitution.	اعتدال پہ۔	تَقْوِيمٍ
5. Then	پھر	ثُمَّ
We returned	ہم نے لوٹا دیا	رَدَدْنَا
him	اسے	هُ
to the lowest	پست سے	أَسْفَلَ
state (of) the low,	پست حالت میں	سَافِلِينَ
6. Except	سوائے	إِلَّا
for those who	ان کے	الَّذِينَ
believe	جو ایمان لائے	آمَنُوا
and do	اور عمل کئے انہوں نے	وَعَمِلُوا
good works.	اچھے	الصَّالِحَاتِ

For them (is)	پس اُن کے لئے	فَلَهُمْ
a reward	اجر (ہے)	اَجْرٌ
unending.	نہ ختم ہونے والا۔	غَيْرُ مَمْنُونٍ
7. Then who	پس کون	فَمَا
denies	جھٹلائے گا	يَكْذِبُ
you	آپ کو	كَ
after this	اس کے بعد	بَعْدُ
regarding Din?	دین کے معاملہ میں۔	بِالدِّينِ
8. Is	کیا	أ
not	نہیں ہے	لَيْسَ
Allah	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ
the Judge (of)	سب سے بڑا حاکم	بِأَحْكَمِ
all the judges?	حاکموں سے۔	الْحَاكِمِينَ

سُورَةُ الْعَلَقِ		
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
1. Read	پڑھیے	اقْرَأْ
with the Name	نام سے	بِاسْمِ
(of) your Lord,	اپنے رب کے	رَبِّكَ
Who	جس نے	الَّذِي
has created.	پیدا کیا	خَلَقَ
2. He created	پیدا کیا	خَلَقَ
man	انسان کو	الْإِنْسَانَ
from a clot of blood.	خون کے لوتھڑے سے۔	مِنْ عَلَقٍ
3. Read	پڑھیے	اقْرَأْ
and	اور	وَ
your Lord	رب آپ کا	رَبِّكَ

is Most Generous,	بڑا کریم ہے۔	الْأَكْرَمُ
4. Who	جس نے	الَّذِي
taught	سکھایا	عَلَّمَ
by the pen,	قلم کے ساتھ۔	بِالْقَلَمِ
5. Taught	اُس نے سکھایا	عَلَّمَ
man	انسان کو	الْإِنْسَانَ
that he did not	جو نہیں	مَا لَمْ
know.	وہ جانتا تھا۔	يَعْلَمُ
6. Nay,	ہرگز نہیں!	كَلَّا
Certainly	بے شک	إِنَّ
man	انسان نے	الْإِنْسَانَ
rebels,	سرکشی کی۔	لَيَطْفَى
7. That	کہ	أَنْ

he thought	اُس نے سمجھا	رَأَاهُ
himself self-sufficient.	وہ بے نیاز ہے۔	اسْتَغْنَى
8. Surely	بے شک	إِنَّ
to	طرف	إِلَى
your Lord	اپنے رب کی	رَبِّكَ
is return.	پلٹنا ہے۔	الرُّجْعَى
9. Have	کیا	أَ
you seen	دیکھا ہے آپ نے	رَأَيْتَ
him who	جو	الَّذِي
prevents,	وہ روکتا ہے	يَنْهَى
10. The worshipper	ایک بندے کو	عَبْدًا
when	جب	إِذَا
he prayed?	وہ نماز پڑھتا ہے۔	صَلَّى

11. Well,	کیا	أ
imagine!	خیال ہے آپ کا	رَاءِ يُتِّ
If	اگر	إِنْ
he was	وہ ہوتا	كَانَ
on	اوپر	عَلَى
the guidance.	ہدایت کے۔	الْهُدَى
12. Or	یا	أَوْ
he had commanded	وہ حکم دیتا	أَمَرَ
for God fearing!	پرہیزگاری کا۔	بِالتَّقْوَى
13. Have	کیا	أ
you seen	دیکھا ہے آپ نے	رَاءِ يُتِّ
when he has	اگر	إِنْ
rejected	اُس نے جھٹلایا	كَذَّبَ

and has turned	اور	وَ
away?	منہ پھیرا۔	تَوَلَّى
14. Does not	کیا نہیں	أَلَمْ
he know	وہ جانتا	يَعْلَمُ
that	کہ بے شک	بِأَنَّ
Allah	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ
monitors?	دیکھتا ہے۔	يَرَى
15. Beware!	خبردار!	كَلَّا
If	بے شک اگر	لَئِنْ
he does not	نہ	لَمْ
desist	باز آیا وہ	يَنْتَه
We shall certainly drag	تو ضرور ہم گھسیٹیں گے	لَنَسْفَعًا
by the forelock,	پیشانی کے بالوں سے	بِالنَّاصِيَةِ

16. forehead	پیشانی	نَاصِيَةٍ
lying	جھوٹی	كَاذِبَةٍ
sinful!	خطا کار	خَاطِئَةٍ
17. Then let him call	پس وہ بلا لے	فَلْيَدْعُ
his companions.	اپنے ہم نشین۔	نَادِيَهُ
18. We shall soon call	ہم بھی بلا لیں گے	سَنَدْعُ
guards of Hell Fire.	جہنم کے فرشتوں کو۔	الزَّبَانِيَةَ
19. No indeed!	ہرگز نہیں!	كَلَّا
Do not	نہ	لَا
pay any heed to him	سنیں اُس کی	تُطِعُهُ
and prostrate	اور سجدہ کریں	وَأَسْجُدْ
and keep drawing near.	اور قریب ہو جائیں۔	وَأَقْتَرِبْ

سُورَةُ الْقَدْرِ		
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
1. Surely We	بے شک ہم نے	إِنَّا
sent down	ہم نے نازل کیا ہے	أَنْزَلْنَا
this	اسے	هُ
during	میں	فِي
the Night (of)	رات	لَيْلَةِ
Destiny.	قدر کی۔	الْقَدْرِ
2. And what	اور	وَمَا
did inform	کیا جانیں	أَدْرَا
you	آپ	كَ
what	کیا (ہے)	مَا
the Night (of)	رات	لَيْلَةِ

Destiny is?	قدر کی۔	الْقَدْرِ
3. The Night (of)	رات	لَيْلَةٍ
Destiny	قدر کی	الْقَدْرِ
is better	بہتر ہے	خَيْرٌ
than	ایک	مِنْ
a thousand	ہزار	أَلْفِ
months.	مہینے سے۔	شَهْرٍ
4. Descend	اترتے ہیں	تَنْزَلُ
the angels	فرشتے	الْمَلَائِكَةُ (مَلَكٌ)
and	اور	وَ
the Spirit	روح	الرُّوحِ
in it	اس میں	فِيهَا
with the	ساتھ	بِ

permission(of)	اجازت	اِذْنٍ
their Lord	اپنے رب کی۔	رَبِّهِمْ
concerning	سے	مِّنْ
all	ہر	كُلِّ
matters.	کام	أَمْرٍ
5. Peace	سلامتی ہے۔	سَلَامٌ
it (is)	یہ	هِيَ
till	تک	حَتَّىٰ
rising (of)	طلوع	مَطْلَعِ
the dawn.	فجر۔	الْفَجْرِ

	سُورَةُ الْبَيِّنَةِ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. Not	نہیں	لَمْ
are	ہیں	يَكُنِ
who	جنہوں نے	الَّذِينَ
disbelieved	کفر کیا	كَفَرُوا
from among	سے	مِنْ
the People (of)	اہل	أَهْلِ
the Book	کتاب	الْكِتَابِ
and the idolaters	اور مشرکوں	وَالْمُشْرِكِينَ
desist	الگ ہونے والے	مُنْفَكِّينَ
until	یہاں تک کہ	حَتَّىٰ
came to them	آجائے ان کے پاس	تَاتِيهِمْ

clear proof .	واضح دلیل۔	الْبَيِّنَةُ
2. Messenger	رسول	رَسُولٌ
from Allah,	اللہ تعالیٰ کی طرف سے	مِّنَ اللَّهِ
who recites	وہ تلاوت کرے	يَتْلُو
pages,	صحیفے	صُحُفًا (صَحِيفَةً)
the well pure.	پاک۔	مُطَهَّرَةً
3. In which (are)	اس میں ہیں	فِيهَا
Commands	احکام	كُتِبَ
firm .	پختہ۔	قِيَمَةً
4. Did not dissent	اور نہیں بے فرقوں میں	وَمَا تَفَرَّقَ
who	جو	الَّذِينَ
were given	دیئے گئے	أُوتُوا
the Book	کتاب	الْكِتَابَ

except	مگر	إِلَّا
until	سے	مِنْ
after	بعد اس کے	بَعْدِ
had come to them	کہ آئی ان کے پاس	مَا جَاءَهُمْ
the clear proof.	واضح دلیل۔	الْبَيِّنَةُ
5. And not	اور نہیں	وَمَا
they were commended	وہ حکم دئے گئے	أَمْرًا
except	مگر	إِلَّا
to worship	یہ کہ وہ عبادت کریں	لِيَعْبُدُوا
Allah	اللہ تعالیٰ کی	اللَّهِ
making sincere	خالص کرتے ہوئے	مُخْلِصِينَ
to him	اُس کے لئے	لَهُ
their Din	دین	الِدِّينِ

devotedly	یکسو ہو کر	حُنَفَاءَ (حَنِيفٌ)
And they establish	اور وہ قائم کریں	وَيُقِيمُوا
Prayer	نماز	الصَّلَاةَ
and to pay	اور ادا کریں	وَيُؤْتُوا
Zakat .	زکوٰۃ	الزَّكَاةَ
And this is	اور وہ ہے	وَذَلِكَ
Din (Religion)	دین	دِينٌ
the straight.	سیدھا۔	الْقِيَمَةَ
6. Indeed those who	بے شک جنہوں نے	إِنَّ الَّذِينَ
disbelieve	کفر کیا	كَفَرُوا
from among	اہل	مِنْ أَهْلِ
the People of the Book	کتاب	الْكِتَابِ
and the polytheists	اور مشرکوں سے	وَالْمُشْرِكِينَ

are in the Fire	آگ میں ہیں	فِي نَارٍ
of Hell.	جہنم کی	جَهَنَّمَ
remaining forever	ہمیشہ رہیں گے	خَالِدِينَ
init	اس میں۔	فِيهَا
It is they	وہ	أُولَئِكَ
who are	وہی	هُم
the worst (of)	بدترین	شَرُّ
the Creation.	مخلوق ہیں۔	الْبَرِيَّةِ
7. Indeed	بے شک	إِنَّ
those who	جو لوگ	الَّذِينَ
believed	ایمان لائے	آمَنُوا
and did	اور انہوں نے عمل کئے	وَعَمِلُوا
pious actions,	اچھے	الصَّالِحَاتِ

it is they	وہ	أُولَئِكَ
who are	وہی	هُم
the best (of)	بہترین	خَيْرِ
the Creation.	مخلوق ہیں۔	الْبَرِيَّةِ
8. Their reward	اُن کی جزاء	جَزَاؤُهُمْ
with	پاس	عِنْدَ
their Lord	اُن کے رب کے	رَبِّهِمْ
is the Gardens	جنتیں ہیں	جَنَّاتٍ
(of) eternal living ,	ہمیشگی کی	عَدْنٍ
flow	بہتی ہیں	تَجْرِي
under them	اُن کے نیچے	مِنْ تَحْتِهَا
streams.	نہریں	الْأَنْهَارِ (نَهْرٍ)
remaining forever	ہمیشہ رہیں گے	خَالِدِينَ

in them	اُن میں	فِيهَا
forever.	ہمیشہ	اَبَدًا
pleased	راضی ہو گیا	رَضِيَ
Allah	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ
with them	اُن سے	عَنْهُمْ
and	اور	وَ
they pleased	وہ راضی ہو گئے	رَضُوا
with Him.	اُن سے	عَنْهُ
This is	یہ ہے	ذَلِكَ
for the one	اُس کے لئے	لِمَنْ
who fears	جو ڈر گیا	خَشِيَ
his Lord.	اپنے رب سے۔	رَبَّهُ

سُورَةُ الزَّلْزَالِ		
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
1. When	جب	اِذَا
was shaken	تھر تھرانے لگے گی	زُلْزِلَتْ
the earth	زمین	الْاَرْضُ
shaking,	تھر تھرانے۔	زِلْزَالَهَا
2. And	اور	وَ
threw out	نکال دے گی	اَخْرَجَتْ
the earth	زمین	الْاَرْضُ
its burdens,	بوجھ اپنے۔	اَثْقَالَهَا
3. And said	اور کہے گا	وَ قَالَ
man:	انسان:	الْاِنْسَانُ
What is to it?	کیا ہے اسے؟	مَا لَهَا

4. On that Day	اُس دن	يَوْمَئِذٍ
it will narrate	وہ بیان کرے گی	تُحَدِّثُ
her news.	خبریں اپنی۔	اَخْبَارَهَا ﴿ۛ﴾ (خَبْرٌ)
5. For	کیونکہ بے شک	بِأَنَّ
your Lord	آپ کے رب نے	رَبَّكَ
commended	حکم بھیجا ہے	اَوْحَى
for it.	اس کے لئے۔	لَهَا ﴿ۛ﴾
6. On that Day	اُس دن	يَوْمَئِذٍ
will return	پلٹیں گے	يَصْدُرُّ
people	لوگ	النَّاسُ
in groups,	گروہوں میں	اَشْتَاتًا (اَلشَّتُّ)
so that	تاکہ	لِّ
they may be shown	ان کو دکھائے جائیں	يُرَوُّا

their works.	اعمال ان کے۔	أَعْمَالَهُمْ (عَمَلٌ) ❁
7. Then he who	پس جس نے	فَمَنْ
will have done	کی ہوگی	يَعْمَلُ
weight of	برابر	مِثْقَالَ
even an atoms	ایک ذرہ کے	ذَرَّةٍ
good	نیکی	خَيْرًا
will see it.	وہ اسے دیکھ لے گا۔	يَرَهُ ❁
8. And he who	اور جس نے	وَمَنْ
will have done	کی ہوگی	يَعْمَلُ
weight of	برابر	مِثْقَالَ
even an atoms	ایک ذرہ کے	ذَرَّةٍ
evil	برائی	شَرًّا
will see it.	وہ اسے دیکھ لے گا۔	يَرَهُ ❁

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ		
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. By the	قسم ہے تیز دوڑنے	وَالْعَادِيَاتِ
charging horses	والے گھوڑوں کی	
that gallop and	جب وہ سینے سے آواز	ضَبْحًا
pant,	نکالتے ہیں!	
2. And those	پھر پتھروں سے آگ	فَالْمُورِيَاتِ
that produce	نکالتے ہیں	
sparks striking		
their hoofs on	چٹانوں پر سُم مار کر!	قَدْحًا
rocks,		
3. Then they	پھر اچانک حملہ کرتے ہیں	فَالْمُغِيرَاتِ
attack		
at dawn,	صبح کے وقت۔	صُبْحًا
4. And then	پھر اڑاتے ہیں	فَأَثَرُنَّ
raise		

through it	اس سے	بِه
clouds of dust ,	گرد و غبار۔	نُقْعًا
5. And then pierce into	پھروہ گھس جاتے ہیں	فَوَسَطْنَ بِهِ
ranks,	لشکر میں۔	جَمْعًا
6. Indeed	بے شک	إِنَّ
man is	انسان	الْإِنْسَانَ
to his Lord	اپنے رب کا	لِرَبِّهِ
certainly ungrateful ,	بے شک ناشکرا ہے۔	لَكَنُودٌ
7. And	اور	وَ
verily he is	بے شک وہ	إِنَّهُ
himself	اوپر	عَلَى
to that	اس کے	ذَلِكَ
a witness.	بے شک گواہ ہے۔	لَشَهِيدٌ

8. And	اور	وَ
indeed he	بے شک وہ	إِنَّهٗ
in the love of	محبت	لِحُبِّ
wealth	مال میں	الْخَيْرِ
is certainly strong.	بے شک سخت ہے۔	لَشَدِيدٍ ﴿٦﴾
9. But does	پس کیا نہیں	أَفَلَا
not he know	وہ جانتا	يَعْلَمُ
when	جب	إِذَا
will be taken out	نکال لیا جائے گا	بُعْثَرَ
that is	جو ہے	مَا
in the graves,	قبروں میں۔	فِي الْقُبُورِ (قَبْرِ) ﴿٧﴾
10. And	اور	وَ
will be disclosed	ظاہر کر دیا جائے گا	حُصِّلَ

that (is)	جو ہے	مَا
in the chests ?	سینوں میں۔	فِي الصُّدُورِ (الصُّدُرُ) ❁
11. Indeed	بے شک	إِنَّ
their Lord will be	ان کا رب	رَبَّهُمْ
to them	ان سے	بِهِمْ
on that Day	اُس دن	يَوْمَئِذٍ
Well Aware?	بے شک باخبر ہوگا۔	لَخَبِيرٌ ❁
	سُورَةُ الْقَارِعَةِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. The high-scale thunder!	دل ہلا دینے والی کڑک۔	الْقَارِعَةُ ❁
2. And what is	کیا ہے	مَا
the high-scale thunder?	دل ہلا دینے والی کڑک؟	الْقَارِعَةُ ❁
And whad did	اور کیا	وَمَا

inform you	جانیں آپ	أَدْرَاكَ
what (is)	کیا ہے	مَا
the high-scale thunder?	دل ہلا دینے والی کڑک۔	الْقَارِعَةُ
3. A day	جس دن	يَوْمَ
will become	ہوں گے	يَكُونُ
the people	لوگ	النَّاسُ
like moths	پروانوں کی طرح	كَالْفَرَاشِ
scattered,	بکھرے ہوئے۔	الْمَبْثُوثِ
5. And will be	اور ہوں گے	وَتَكُونُ
the mountains	پہاڑ	الْجِبَالُ (الْجَبَلُ)
like multicoloured	جیسے رنگ برنگی اون	كَالْعِهْنِ
wool carded .	دھنکی ہوئی۔	الْمَنْفُوشِ
6. So	پس بہر حال	فَإِمَّا

he whose	جس کے	مَنْ
will be heavy	بھاری ہوں گے	ثَقُلْتُ
scales of deeds,	پلڑے	مَوَازِينُهُ
7. He	پس وہ	فَهُوَ
will be in life	زندگی میں ہوگا	فِي عَيْشَةٍ
delightful.	من پسند	رَاضِيَةٍ
8. But as for	اور بہر حال	وَ اَمَّا
him whose	جس کے	مَنْ
will be light	ہلکے ہوں گے	خَفَّتْ
scales of deeds,	پلڑے	مَوَازِينُهُ
9. His abode will	پس اُس کا ٹھکانہ	فَاَمَّهُ
be a pit in Hell!	ہاویہ ہوگا	هٰوِيَةٌ
10. And what	اور آپ کیا	وَ مَا

did inform you	جانیں	أَدْرَاكَ
what that is?	کیا ہے وہ؟	مَا هِيَ
11. It is Fire	آگ ہے	نَارٌ
blazing.	بھڑکتی ہوئی۔	حَامِيَةٌ
	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	
1. Made negligent	غافل کر دیا	أَلْهَىٰ
you	تمہیں	كُم
greed for mas- sive wealth,	زیادہ مال کی ہوس نے	التَّكَاثُرُ
2. Until	یہاں تک	حَتَّىٰ
you visited	کہ تم نے دیکھ لیں	وَدُّوْا زُرْتُمْ
the graves.	قبریں	الْمَقَابِرِ (الْمَقْبَرَةُ)
3. No indeed!	نہیں، بے شک	كَلَّا

soon	بہت جلد	سَوْفَ
You wil know .	تم جان لوگے۔	تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾
4. Again	پھر،	ثُمَّ
No! Never!	ہرگز نہیں	كَلَّا
soon	بہت جلد	سَوْفَ
You will know.	تم جان لوگے۔	تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾
5. Yes indeed!	ہاں ہاں،	كَلَّا
if	اگر	لَوْ
you would know	تم جان لیتے	تَعْلَمُونَ
with the knowledge of	علم	عِلْمٍ
certitude.	یقین سے۔	الْيَقِينِ ﴿٦﴾
6. you shall surely see	تم ضرور دیکھوگے	لَتَرَوُنَّ
Hell.	دوزخ کو۔	الْجَحِيمِ ﴿٦﴾

7. Then	پھر	ثُمَّ
you shall certainly see it	تم ضرور اُسے دیکھو گے	لَتَرَوْنَهَا
with the eye(of)	چشم	عَيْنٍ
certitude.	یقین سے۔	الْيَقِينِ ﴿٦﴾
8. Then	پھر	ثُمَّ
surely you will be questioned	ضرور پوچھا جائے گا تم سے	لَتُسْأَلُنَّ
on that Day	اُس دن	يَوْمَئِذٍ
about	بارے میں	عَنِ
the bounties.	نعمتوں کے۔	النَّعِيمِ ﴿٧﴾
	سُورَةُ الْعَصْرِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. By the time!	قسم ہے زمانہ کی!	وَالْعَصْرِ ﴿٨﴾
2. Indeed	بے شک	اِنَّ

man	انسان	الْإِنْسَانَ
is at a loss.	ضرور گھائے میں ہے۔	لَفِي خُسْرٍ ﴿٦﴾
3. Except	سوائے	إِلَّا
for those who	اُن کے	الَّذِينَ
believed	جو ایمان لائے	آمَنُوا
and did	اور انہوں نے کئے	وَعَمِلُوا
good deeds	نیک اعمال	الصَّالِحَاتِ
and	اور	وَ
advised one another	باہم تلقین کرتے رہے	تَوَاصَوْا
to Truth	حق کی	بِالْحَقِّ
and	اور	وَ
advised one another	باہم تلقین کرتے رہے	تَوَاصَوْا
to patience.	صبر کی۔	بِالصَّبْرِ ﴿٧﴾

سُورَةُ الْهُمَزَةِ		
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
1. Woe to	ہلاکت ہے	وَيْلٌ
everyone	ہر	لِكُلِّ
who slanders	طعن دینے	هُمَزَةٍ
finds fault!	عیب نکالنے والے کیلئے	لِّمَنْزَةِ ❁
2. Who	جس نے	بِالَّذِي
gathered	جمع کیا	جَمَعَ
wealth	مال	مَالًا
and	اور	وَوَدَّ
kept counting	گنتا رہا	عَدَدًا
it!	اسے۔	هُ ❁
3. He thinks	وہ خیال کرتا ہے	يَحْسَبُ

that certainly	بیشک	أَنَّ
his riches	اس کے مال نے	مَالَهُ
had made him eternal	اسے پائیدار بنا دیا ہے۔	أَخْلَدَهُ
4. By no means!	ہرگز نہیں!	كَلَّا
certainly	ضرور	لَ
he will be cast	وہ پھینکا جائے گا	يُنْبَذَنَّ
into the	میں	فِي
crushing up Fire.	ریزہ ریزہ کر نیوالی آگ	الْحُطَمَةِ
5. And what	اور	وَمَا
did inform	کیا جانیں	أَدْرَا
you	آپ	كَ
what is	کیا (ہے)	مَا
the crushing up Fire?	توڑ دینے والی آگ	الْحُطَمَةُ

6. Fire	آگ ہے	نَارُ
of Allah,	اللہ کی	اللَّهِ
kindled.	جلائی ہوئی	الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾
7. That	جو	الَّتِي
will rise	چڑھ جائے گی	تَطْلُعُ
over	اوپر	عَلَى
the hearts.	دلوں کے۔	الْأُفُئِدَةِ (فُؤَادٌ) ﴿٧﴾
8. Indeed that	بے شک وہ	إِنَّهَا
will be upon	اُن پر	عَلَيْهِمْ
them		
all around	بند کر دی جائے گی۔	مُؤَصَّدَةٌ ﴿٨﴾
closed,		
9. In columns	ستونوں میں	فِي عَمَدٍ (الْعِمَادِ)
towering.	لمبے۔	مُمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

سُورَةُ الْفِيلِ		
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
1. Have not	کیا نہیں	أَلَمْ
you seen	دیکھا آپ نے	تَرَ
how dealt	کیسے کیا	كَيْفَ فَعَلَ
your Lord	آپ کے رب نے	رَبُّكَ
with people of	اصحابِ	بِأَصْحَابِ (صَاحِبٍ)
elephants?	فیل سے؟	الْفِيلِ ❁
2. Did not	کیا نہیں	أَلَمْ
He make	اُس نے بنا دیا	يَجْعَلُ
their crafty designs	اُن کا منصوبہ	كَيْدَهُمْ
in	میں	فِي
faliour?	ناکامی۔	تَضْلِيلٍ ❁

3. And He sent	اور اُس نے بھیجے	وَأَرْسَلَ
on to them	اُن پر	عَلَيْهِمْ
birds	پرنندوں کے	طَيْرًا
in flocks,	جھنڈ	أَبَابِيلَ
4. Which	وہ پھینکتے تھے	تَرْمِي
pelting them	اُن پر	هُمْ
with stone	پتھر	بِحِجَارَةٍ
from	سے	مِنْ
baked clay.	پکی مٹی کے۔	سِجِّيلٍ
5. Then He made	پس اُس نے کر دیا	فَجَعَلَ
them	اُن کو	هُمْ
like chaff	جیسے بھوسا	كَعَصْفٍ
chewed-up .	کھایا ہوا۔	مَاكُولٍ

	سُورَةُ قُرَيْشٍ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. For the inclination (of)	وَاسْطَى الْفَتْ	لِيُؤَلِّفَ
Quraish,	قریش کے۔	قُرَيْشٍ
2. Their inclination	أَنْ كِي الْفَتْ	الْفِهِمْ
for commercial trips	تجارتی سفر کے لئے	رِحْلَةً
in the summer	گرمی	الشِّتَاءِ
and winter.	اور سردی میں۔	وَالصَّيْفِ
3. So they should worship	پس وہ عبادت کریں	فَلْيَعْبُدُوا
the Lord	رب	رَبَّ
(of) this	اس	هَذَا
House,	گھر کے کی	الْبَيْتِ
4. Who	جس نے	الَّذِي

has fed them	انہیں کھلایا	أَطْعَمَهُمْ
in hunger	بھوک میں	مِنْ جُوعٍ
and secured	اور امن دیا	وَأَمَّنَ
them	ان کو	هُمْ
from fear.	خوف سے	مِنْ خَوْفٍ ❁
	سُورَةُ الْمَاعُونِ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. Have	کیا	أ
you seen	دیکھا ہے آپ نے	رَأَيْتَ
him who	جو	الَّذِي
denies	جھٹلاتا ہے	يُكَذِّبُ
Din?	دین کو؟	بِالدِّينِ ❁
2. So he is the one	پس وہ ہے	فَذَلِكَ

who	جو	الَّذِي
pushes away	دھکے دیتا ہے	يُدْعُ
the orphan.	یتیم کو۔	الْيَتِيمِ
3. And does not urge	اور نہیں رغبت دیتا	وَلَا يَحْضُرُ
on	اوپر	عَلَى
feeding	کھلانے	طَعَامٍ
the poor.	مسکین کے۔	الْمَسْكِينِ
4. So woe to	پس ہلاکت ہے	فَوَيْلٌ
those worshippers,	ان نمازیوں کے لئے	لِلْمُصَلِّينَ
5. Who they	جو وہ	الَّذِينَ هُمْ
from their prayers	اپنی نماز سے	عَنْ صَلَاتِهِمْ
are unaware	غافل ہیں۔	سَاهُونَ
6. Who	جو	الَّذِينَ

they	وہ	هُم
show off.	ریا کاری کرتے ہیں۔	يُرَاءُونَ ﴿١﴾
7. And they do not give	اور نہیں دیتے	وَيَمْنَعُونَ
things of daily use !	معمولی استعمال کی چیزیں	الْمَاعُونَ ﴿٢﴾
	سُورَةُ الْكُوْثِرِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. Indeed We	بے شک ہم نے	اِنَّا
have bestowed	ہم نے عطا کیا	اَعْطَيْنَا
on you	آپ کو	كَ
an infinite abundance.	بے حد بے حساب	الْكُوْثَرَ ﴿١﴾
2. So pray	پس نماز پڑھا کریں	فَصَلِّ
to your Lord	اپنے رب کے لئے	لِرَبِّكَ
and offer sacrifice.	اور قربانی دیا کریں۔	وَاَنْحِرْ ﴿٢﴾

3. Indeed	بیشک	إِنَّ
your enemy	آپ کا دشمن	شَانِكَ
He (will remain)	وہی	هُوَ
nameless.	بے نام و نشان ہوگا۔	الْأَبْتَرُ
	سُورَةُ الْكَافِرُونَ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. Say:	فرما دیجئے	قُلْ
0	اے	يَا أَيُّهَا
disbelievers!	کافرو!	الْكَافِرُونَ
2. I do not worship	نہیں میں عبادت کرتا	لَا أَعْبُدُ
that	جس کی	مَا
you worship.	تم عبادت کرتے ہو۔	تَعْبُدُونَ
3. Nor do you	اور نہ تم	وَلَا أَنْتُمْ

worship	عبادت کرنے والے ہو	عَابِدُونَ
Whom	جس کی	مَا
I worship.	میں عبادت کرتا ہوں۔	أَعْبُدُ
4. I shall never	اور نہ میں	وَلَا أَنَا
ever worship	عبادت کرنے والا ہوں	عَابِدٌ
that	جس کی	مَا
you worship.	تم عبادت کرتے ہو۔	عَبَدْتُمْ
5. And nor shall	اور نہ	وَلَا
you	تم	أَنْتُمْ
worship	عبادت کرو گے	عَابِدُونَ
Whom	جس کی	مَا
I worship.	میں عبادت کرتا ہوں۔	أَعْبُدُ
6. For you (is)	تمہارے لئے	لَكُمْ

your Din	تمہارا دین ہے	دِينُكُمْ
and for me (is)	اور میرے لئے	وَلِيَّ
my Din.	میرا دین ہے۔	دِينٍ
	سُورَةُ النَّصْرِ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. When	جب	إِذَا
came	آئی	جَاءَ
Allahs help	مدد اللہ تعالیٰ کی	نَصْرُ اللَّهِ
and victory,	اور فتح	وَالْفَتْحِ
2. And you saw	اور آپ نے دیکھے	وَرَأَيْتَ
people	لوگ	النَّاسَ
they enter	وہ داخل ہوتے ہیں	يَدْخُلُونَ
into Allah's Din	اللہ تعالیٰ کے دین میں	فِي دِينِ اللَّهِ

in droves,	فوج در فوج	أَفْوَاجًا ﴿١﴾ (فَوْجٌ)
3. So glorify	تو پا کی بیان کریں	فَسَبِّحْ
with praise (of)	حمد کے ساتھ	بِحَمْدِ
your Lord	اپنے رب کی	رَبِّكَ
and seek pardon	اور مانگیں بخشش	وَاسْتَغْفِرْ
from Him.	اُس سے	هُ
Surely	بے شک وہ ہے	إِنَّهُ
He (is)	بہت زیادہ توبہ قبول	كَانَ
Ever-Relenting.	فرمانے والا۔	تَوَّابًا ﴿٢﴾
	سُورَةُ اللَّهَبِ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. Perished be	تباہ ہو جائیں	تَبَّتْ
the two hands	دونوں ہاتھ	يَدَا

of Abu Lahab	ابولہب کے	أَبِي لَهَبٍ
and be he perished!	اور وہ بھی تباہ ہو جائے!	وَتَبَّ
2. Did not	نہیں	مَا
gave benefit	فائدہ دیا	أَغْنَى
him	اُسے	عَنْهُ
his wealth	اُس کے مال نے	مَالُهُ
and that	اور جو	وَمَا
he earned.	اُس نے کمایا۔	كَسَبَ
3. Soon he will tumble	بہت جلد وہ داخل ہوگا	سَيَصُلَّى
into Fire	آگ میں	نَارًا
the Flaming ,	شعلے برساتی ہوئی۔	ذَاتِ لَهَبٍ
4. And his wife	اور اُس کی بیوی	وَأَمْرَأَتُهُ
carrier	اُٹھانے والی	حَمَّالَةَ

of woods.	ایندھن کی۔	الْحَطْبِ ﴿٦﴾
5. Around her neck	اُس کی گردن میں	فِي جِيدِهَا
(will be) rope	رسی ہوگی	حَبْلٌ
from palm-fibre.	مونج کی۔	مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٧﴾
	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ	
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
1. Proclaim:	فرما دیجئے	قُلْ
He (is)	وہ	هُوَ
Allah, One.	اللہ ایک ہے۔	اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾
2. Allah is	اللہ	اللَّهُ
the Independent.	بے نیاز ہے۔	الصَّمَدُ ﴿٢﴾
3. Has did not	نہیں	لَمْ
give birth	جنماُس نے	يَلِدُ

nor	اور نہ ہی	وَلَمْ
He was given birth.	وہ جنا گیا۔	يُؤَدُّ
4. And nor is	اور نہ ہی	وَلَمْ
to Him	ہے اُس کے لئے	يَكُنْ لَهُ
equal	شریک۔	كُفُوًا
anyone.	کوئی	أَحَدٌ
	سُورَةُ الْفَلَقِ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. say:	فرمادیں	قُلْ
I seek refuge	میں پناہ مانگتا ہوں	أَعُوذُ
with the Lord	پروردگارِ	بِرَبِّ
of the dawn	صبح کے۔	الْفَلَقِ
2. From the evil	شر سے	مِنْ شَرِّ

(of)that	جو	مَا
He has created,	اُس نے پیدا کیا	خَلَقَ
3. And	اور	وَ
from the evil (of)	شر سے	مِنْ شَرِّ
murky night	اندھیری رات کے	غَاسِقِ
when	جب	اِذَا
it prevailed,	وہ چھا جائے۔	وَقَبَّ
4. And	اور	وَ
from the evil (of)	شر سے	مِنْ شَرِّ
blowing women	پھونکنے والیوں کے	النَّفَّاتِ (نَفَّاتٍ)
in knots.	گرہوں میں۔	فِي الْعُقَدِ (عُقَدَةٍ)
5. And	اور	وَ
from the mischief	شر سے	مِنْ شَرِّ

jealousy	حسد کرنے والے کے	حَاسِدٍ
when	جب	إِذَا
he felt jealous.	وہ حسد کرے۔	حَسَدٌ
	سُورَةُ النَّاسِ	
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1. Say:	فرما دیجئے	قُلْ
I seek refuge	میں پناہ مانگتا ہوں	أَعُوذُ
with the Lord(of)	رب	بِرَبِّ
mankind,	لوگوں کے سے	النَّاسِ
2. The King (of)	بادشاہ	مَلِكِ
mankind,	لوگوں کے سے	النَّاسِ
3. The God (of)	معبود	إِلَهِ
mankind.	لوگوں کے سے	النَّاسِ

4. From the evil of	شر سے	مِنْ شَرِّ
whisperer	وسوسہ ڈالنے والے کے	الْوَسْوَسِ
slinking .	بار بار پسپا ہونے والے	الْخَنَّاسِ
5. Who	جو	الَّذِي
whispers	وسوسہ ڈالتا ہے	يُوسِسُ
into the hearts of	سینوں میں	فِي صُدُورِ (صَدْرٍ)
mankind,	لوگوں کے	النَّاسِ
6. From	سے	مِنْ
the jinn	جنوں	الْجِنَّةِ
and mankind.	اور انسانوں۔	وَالنَّاسِ